


یک صد (100)

خاصِ مصطفیٰ



قریب ترین شیخ اُن را می سازد و فرش امامی که از هم
نهاد سلسله ای خود را در امامت مدارس در حضور

دشیں ایجمن اولی المقادیر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

دور حاضرہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس پر مختلف جیلوں سے حملہ ہو رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر جماعتیں بنائیں کر آپ کے کمالات اور فضائل کو شرک بتایا جاتا ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خصائص مبارکہ زبانی یاد کر لے گا وہ نہ صرف گمراہی سے بچ جائے گا بلکہ دنیا و آخرت میں فلاج و کامرانی سے ہمکنار ہو گا۔

فقیر کا مشورہ ہے کہ یہ خصائص نہ صرف خود بلکہ گھر کا تمام کنبہ بچے، بچیاں، مرد، عورتیں زبانی یاد کر لیں اور مدارس اسلامیہ بالخصوص اہلسنت کے ہر طالب علم کو زبانی یاد کرائیں بلکہ ابتدائی نصاب میں شامل فرمائیں اور اسی طرح روزانہ بچوں سے تکرار کرائیں جیسے اسکولوں میں پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں۔

فقط السلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور - پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْدَدُهُ وَنَصْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مقدمہ

جیسا کہ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص یاد کرنا دونوں جہانوں میں فلاح کا موجب ہے وہ یہ ہیں۔

خصائص کی چار قسم

- ۱۔ وہ واجبات جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص ہیں مثلاً نمازِ تہجد۔
- ۲۔ وہ احکام جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر حرام ہیں، دوسروں پر نہیں۔ مثلاً تحریمِ زکوٰۃ۔
- ۳۔ وہ مبارکات جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خاص ہیں۔ مثلاً نماز بعد عصر۔
- ۴۔ وہ فضائل و کرمات جو حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں۔

اس رسالہ میں صرف چہارم میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجوت فرمایا۔

۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پیدائشی نبی ہیں دیگر انبیاء کے کرام علی نبیواد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح نے آپ کی روح انور سے اتفاق ہے کیا۔

۳۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کو پا سکیں تو آپ پر ایمان لا سکیں اور آپ کی مدد کریں۔

۴۔ یوم 'الست' میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملی، کہا تھا۔

۵۔ حضرت آدم علی نبیواد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام مخلوقات حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کیلئے پیدا کئے گئے۔

۶۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایہ پر اور ہر ایک آسمان پر اور بہشت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔

۷۔ سابقہ آسمانی کتب تورات و انجیل وغیرہ میں آپ کی بشارت ہے۔

۸۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندھے گرپڑے، جنات نے اشعار پڑھے۔

۹۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ کئے ہوئے، ناف بریدہ اور آلووگی سے پاک و صاف پیدا ہوئے۔

۱۰۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالتِ سجدہ میں تھے اور ہر دو انگشت شہادت آسمان کی طرف آنکھے ہوئے تھے۔

۱۱۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل دیکھ لئے۔

۱۲۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوارہ کو فرشتہ ہلایا کرتے تھے۔ آپ نے گھوارہ میں گفتگو کی۔ چاند سے آپ کی گفتگو مشہور ہے بلکہ آپ جس سمت کو اشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔

۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا ہے۔ ہے تفصیل سے فقیر اوسی غفرانے شرح حدائق بخشش میں لکھ دیا۔

- ۱۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک (محمد) اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (محمود) سے مشتق ہے۔
- ۱۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسامیے مبارکہ میں سے تقریباً (ستر) نام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔
- ۱۵۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اسماں مبارک احمد ہے۔ آپ سے پہلے جب سے ڈنیا ہی ہے کسی کا یہ نام نہ تھا کہ اس بات میں کسی کو جگہ نہ رہے کہ کتب سابقہ میں جواہر مذکور ہے، وہ آپ ہی ہیں۔
- ۱۶۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کھلا تاپا تا تھاجت کے کھانوں سے۔
- ۱۷۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے ایسے دیکھتے تھے جیسے آگے کو دیکھتے۔ رات کو تاریکی میں ایسے دیکھتے جیسے دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے تھے۔
- ۱۸۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے ایسے دیکھتے تھے جیسے آگے کو دیکھتے۔ رات کو تاریکی میں ایسے دیکھتے جیسے دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے تھے۔
- ۱۹۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا العابِ دہن شور (کھارے) پانی کو مٹھا بنا دیتا اور شیر خوار پچوں کیلئے دودھ کا کام دیتا۔
- ۲۰۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو اس پر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہو جاتا۔
- ۲۱۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ اتنی دور تک پہنچتی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو خواتین اپنے گھروں میں سن لیا کرتی تھیں۔
- ۲۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغلِ اقدس پاک و صاف اور خوشبودار تھی۔
- ۲۳۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوتِ سامعہ (شے کی طاقت) سب سے بڑھ کر تھی۔ یہاں تک کہ آسمان میں ملائکہ کی کثرت اٹھو دھام کے باوجود آسمان کی آواز سن لیتے تھے۔ جریل علیہ الاسلام کی خوشبو بھی سو گھنے لیتے بلکہ آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی سن لیتے۔ (ای ائمۃ الہست کا تقدیمہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرود شریف خود سنتے ہیں اور جو امتی بھی فریاد کرتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں۔ اُویسی غفران)
- ۲۴۔ نیند میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ سوچاتی ہے لیکن دل پاک بیدار رہتا ہے۔
- ۲۵۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی انگڑائی اور جمائی نہیں لی۔
- ۲۶۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔
- ۲۷۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن شریف پر کمھی نہ بیٹھتی اور کپڑوں میں جوں نہ پڑتی۔
- ۲۸۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو فرشتے (بغرض حفاظت) آپ کے پیچھے ہوتے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحابِ کرام سے فرمایا کہ تم میرے آگے چلو اور میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔

۲۹۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون اور تمام فضلات پاک تھے بلکہ آپ کے بول کا پینا شفائے امراض تھا۔

۳۰۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ اقدس کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔

۳۱۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در میانہ قدوالے مائل پر درازی تھے جب چلتے تو سب سے اوپر نظر آتے تاکہ ظاہری طور پر بھی آپ سے کوئی اونچائنا ہو۔

۳۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گنج کے سر پر ہاتھ اقدس پھیرتے اسی وقت گنج کے بال اگ آتے اور جس درخت کو بوتے وہ اسی سال پھل دینے لگا جیسے حضرت سلامان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بااغ۔

۳۳۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے سر پر ہاتھ پھیرتے آپ کے ہاتھ کی جگہ کے بال سیاہ رہتے سنید نہیں ہوتے۔

۳۴۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پر کاہنوں کی خبریں منقطع ہو گئیں اور شہاب ثاقب کے ساتھ آسمانوں کی حفاظت کر دی گئی اور شیاطین تمام آسمانوں سے روک دیئے گئے۔

۳۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرین و موکل (جن) اسلام لے آیا۔

۳۶۔ شبِ معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے برائقِ مع زین و لگام آیا۔

۳۷۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبِ معراج میں جسد مبارک کے ساتھِ حالتِ بیداری میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے۔

بلکہ جائے کہ جانبوں آنجا محرے جز خدا نبود آنجا

۳۸۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار جل شاد کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ کلام کیا۔ اسی رات آپ بیت المقدس میں نماز میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے لام بنے۔

۳۹۔ بعض غزوتوں میں فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑے جیسے بد رہیں۔

۴۰۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو تحریف سے محفوظ اور بلحاظ لفظ و معنی مجذہ ہے۔

۴۱۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں تمسم فرماتے تو گھروشن ہو جاتا۔

۴۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی آپ جس راستے گرتے اس سے خوشبو مہکتی رہتی۔

۴۳۔ جس سواری پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ بول و برانہ کرتا جب تک آپ سوار رہتے۔

۳۲۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی سمجھیاں عطا کی گئیں۔ ان خزانوں میں سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ آپ ہی کے دست مبارک سے ملتا ہے۔ کیونکہ آپ باری تعالیٰ کے خلیفہ مطلق وناہب کل ہیں۔ جو کچھ چاہتے ہیں باذن الہی عطا فرماتے ہیں۔

۳۵۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم دیا یہاں تک کہ روح اور ان امورِ خمسہ کا علم بھی عنایت فرمایا جو سورہ القمان کے اخیر میں مذکور ہیں۔

۳۶۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہاں (انس و جن و ملائک) کیلئے پیغمبر بنانے کا بھیجے گئے ہیں۔ تفصیل دیکھئے فقیر کار سالہ کل کائنات کا نی۔

۳۷۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

۳۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رُعب کا یہ حال تھا کہ دشمن خواہ ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا آپ اس پر رُعب سے فتح پاتے اور وہ مغلوب ہو جاتا۔

۳۹۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے اور آپ کی امت کیلئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ جہاں نماز کا وقت آجائے اور پانی نہ ملے تمیم کر کے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ دوسری امتوں کیلئے پانی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ طہارت نہ تھی اور نماز بھی مصین جگہ کے سوا اور جگہ جائز نہ تھی۔

۴۰۔ چاند کا گلزار ہوتا۔ شجر و مجر کا سلام کرنا اور بر سالت کی شہادت دینا۔ ستون حنانہ کار و نانا اور انگلیوں سے چٹٹے کی طرح پانی جاری ہوتا۔ یہ سب مجزات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔

۴۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔

۴۲۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں کی تاریخ ہے اور قیامت تک رہے گی۔

۴۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے القاب سے خطاب فرمایا۔ بخلاف دیگر انبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے خطاب کیا ہے۔ اس پر قرآنی آیات شاہد ہیں۔

۴۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔

۴۵۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ چنانچہ اذان اور خطبے اور تشهد میں اللہ عزوجل کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔

- ۵۶۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی امت پیش کی گئی اور جو کچھ آپ کی امت میں قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب آپ پر پیش کیا گیا بلکہ باقی امتسیں بھی آپ پر پیش کی گئیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا گیا۔
- ۷۵۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جیبیں ہیں۔
- ۵۸۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ان کے مانگنے کے بعد عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بن مانگے عنایت فرمایا۔
- ۵۹۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طاعت و محیثت، فرائض و احکام، وعدہ و عید اور انعام و اکرام کا ذکر کرتے وقت اپنے پاک نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔
- ۶۰۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش تا فرش مشہور ہیں اور نماز و خطبہ و اذان میں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک مذکور ہے اور عرش پر، قصور بہشت پر، حوروں کے سینوں پر، درختان بہشت کے پتوں پر اور فرشتوں کی چشم وابرو پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف لکھا ہوا ہے اور آپ سے پہلے جس قدر انبياء گزرے ہیں وہ سب آپ کے شاه خواں رہے ہیں اور قیامت کو شاه خواں ہوں گے۔
- ۶۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وحی کی تمام قسموں کے ساتھ کلام کیا گیا۔
- ۶۲۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روایا (خواب) وحی ہے یہی حال تمام تغیرتوں کا ہے۔ (علی بنیاد علیہم الصلوٰۃ والسلام)
- ۶۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام نازل ہوئے جو آپ سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئے۔
- ۶۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین اولاد آدم ہیں۔
- ۶۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم اخلق ہیں۔ اسلئے دیگر انبياء و مرسلین اور ملائک سے افضل ہیں۔
- ۶۶۔ آپ سے تبلیغی احکامات میں خطا و نیان محال ہے۔
- ۶۷۔ قبر میں میت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سوال ہوتا ہے۔
- ۶۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازوائیں مطہرات سے نکاح حرام کیا گیا۔
- ۶۹۔ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے بے شک آپ ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان آپ کی صورت شریف کی طرح نہیں بن سکتا۔ اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جس صورت سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا۔

- ۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف یعنی محمد کی کنام رکھنا مبارک اور دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے فقیر کی کتاب شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
- ۲۔ کسی کیلئے جائز نہیں کہ اپنی انگوٹھی پر 'محمد رسول اللہ' نقش کرائے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تھا۔
- ۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے پڑھنے کیلئے غسل ووضو کرنا اور خوشبو مانا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف کے پڑھنے میں آواز دھی کی جائے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات شریف میں جس وقت آپ کلام کرتے حکم الہی تھا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا کلام مردی و ما ثور عزت و رفت میں مثل اس کلام کے ہے جو آپ کی زبان مبارک سے سن جاتا تھا۔ لہذا اکلام ما ثور کی قرأت کے وقت بھی وہی ادب طحوز رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف اونچی جگہ پر پڑھی جائے اور پڑھنے وقت کسی کی تعلیم کیلئے خواہ کیسا ہی ذی شان ہو کھڑا نہ ہو وہ کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔
- ۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے محدثین کے چہرے تازہ و شاد مارہیں گے۔
- ۵۔ جس شخص نے بحالت ایمان ایک لمحہ یا ایک نظر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی حیات ظاہری میں دیکھ لیا اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ طویل صحبت شرط نہیں۔ ہاں تابعی ہونے کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ صحابی کی صحبت میں دیر تک رہا ہو۔
- ۶۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں۔ لہذا اشہاد و روایت میں ان میں سے کسی کی عدالت سے بحث نہ کی جائے۔ جیسا کہ دیگر راویوں میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعديل کتاب و سنت کے قوی دلائل سے ثابت ہے۔
- ۷۔ نمازی تشهد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں خطاب کرتا ہے: السلام عليك اهلا النبي (آپ پر سلام اے نبی) اور آپ کے سوا کسی اور حقوق کو اس طرح خطاب نہیں کرتا۔ شبِ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں الفاظ سے خطاب کیا تھا۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ نمازی کو چاہئے کہ تشهد میں شبِ معراج کے واقعہ کی حکایت و اخبار کا ارادہ نہ کرے بلکہ انشاء کا قصد کرے کہ گویاہ اپنی طرف سے اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے۔
- ۸۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مجرموں کے باہر سے آپ کو پکارنا حرام ہے۔
- ۹۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلند آواز سے کلام کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

۷۷۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ گناہ صیغہ اور کبیرہ سے عمدًا اور سہو اعلان ثبوت سے قبل بھی اور بعد بھی یہی مذہب مختار ہے۔

۷۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنون اور لمبی بے ہوشی طاری نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ مجلہ خاص ہیں۔ علامہ سکی نے کہا کہ پیغمبر وہ پر نایتاً وارِد نہیں ہوتی کیونکہ یہ لقص ہے۔ کوئی پیغمبر نایتاً نہیں ہوا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام کی نسبت جو کہا گیا کہ وہ نایتاً تھے، سودہ ثابت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سوان کی آنکھوں پر پردہ آگیا تھا اور وہ پردہ دور ہو گیا۔ مشہور یہ ہے کہ کوئی پیغمبر (بہرا) نہ تھا۔ اس مسئلہ کیوضاحت فقیر کے رسالہ اثارہ القلوب فی بصارہ یعقوب میں ہے۔

۷۹۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا کسی وجہ سے صراحتیاً کتابتیاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحقیص شان کرے، اس کا قتل کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ قتل کرنا بطریق حد ہے کہ بالفعل مارڈا لانا چاہئے اور توبہ نہ کرانی چاہئے، یا بطریق ارتداد ہے کہ اس سے توبہ طلب کی جائے۔ اگر توبہ کرے تو بخش دینا چاہئے۔ اس مسئلے میں مختار قول اول ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اہانت کرنے والا مسلمان تھا۔ اگر کافر ہو اور اسلام لائے تو در گزر کرنا چاہئے۔ (دور حاضر میں اس مسئلہ پر عمل ضروری ہے۔)

۸۰۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کیلئے جس حکم کی تخصیص چاہئے کر دیتے اس مسئلہ کی تحقیق و دلائل کیلئے اور اگر کوئی ظالم آپ کے قتل کا تصد کرے تو جو مسلمان حاضر ہواں پر واجب تھا کہ آپ کی حفاظت میں اپنی جان سے در بغزہ کرے۔

۸۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کیلئے جس حکم کی تخصیص چاہئے کر دیتے اس مسئلہ کی تحقیق و دلائل کیلئے امام احمد رضا محدث بریلوی و محمد درحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف مبارکۃ البیب کا مطالعہ فرمائیے۔

۸۲۔ وصال ظاہری سے قبل مرض میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عیادت کیلئے حضرت جبریل علیہ السلام تین دن حاضر خدمت ہوتے رہے۔

۸۳۔ جب ملک الموت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اذن طلب کیا۔ آپ سے پہلے اس نے کسی نبی سے اذن طلب نہیں کیا۔

۸۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنائزہ شریف کی نماز مسلمانوں نے گروہ ہا گروہ الگ الگ بغیر امامت کے پڑھی۔ آپ کے غلام اُثراں نے جمد مبارک کے نیچے لحد میں قطیفہ بخرا نیا بچھادی جو آپ اوڑھا کرتے تھے۔ نماز بے جماعت اور قطیفہ کا بچھانا آپ کے خصائص سے ہے۔

۸۷۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو منیٰ نہیں کھاتی۔ تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے۔ (علیٰ نبیواد علیہم اصلوٰۃ والسلام)

۸۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطورِ میراث کچھ نہیں چھوڑا۔ جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ و وقف تھا۔ اور اس کا مصرف وہی تھا جو آپ کی حیات شریف میں تھا۔

۸۹۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرقد شریف میں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے۔ (علیٰ نبیواد علیہم اصلوٰۃ والسلام)

۹۰۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کعبہ مکرمہ اور عرشِ معطی سے بھی افضل ہے۔

۹۱۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ جو آپ کی امت کے ذرود آپ کو پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ امام احمد ونسائی کی روایت میں ہے۔ جس وقت کوئی شخص آپ پر درود پہنچتا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ

یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اس وقت فلاں بن فلاں آپ پر درود پہنچتا ہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں۔ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

اس کے باوجود آپ خود بھی ہر درود خوان کا درود سنتے اور جواب مرحمت فرماتے ہیں۔

۹۲۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر روز صبح و شام آپ کی امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ اعمال پر آپ اللہ کا شکر بجالاتے ہیں اور برے اعمال کیلئے بخشنش طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کوئی روز ایسا نہیں مگر یہ کہ صبح و شام امت کے اعمال نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس آپ ان کی پیشانیوں سے اور ان کے اعمال سے پہنچاتے ہیں۔

۹۳۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ کی تشریف آوری اس حالت میں ہو گی کہ آپ برائق پر سوار ہوں گے اور ستر ہزار فرشتے ہم کاب ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہر روز صبح کو ستر ہزار فرشتے آسمان سے اُتز کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے بازو ہلاتے ہیں (اور آپ پر درود بھیجتے ہیں)۔ اسی طرح شام کے وقت وہ آسمان پر چلتے جاتے ہیں۔ اور ستر ہزار اور حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ قبر شریف سے نکلیں گے تو ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ موقف میں آپ کو بہشت کے حلوب کی نہایت نیک خلعت عطا ہو گی۔

۹۴۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر نیف اور قبر مبارک کے مابین بہشت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔

۹۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام (محمود) عطا ہو گا۔ جس سے مراد بقول مشہور مقام شفاعت ہے۔

۹۶۔ قیامت کے دن الٰ موقن طول و قوف کے سب سے گھبرا جائیں گے اور بغرض شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس یکے بعد دیگرے جائیں گے۔ اور آخر کار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونگے۔ آپ کو الٰ موقن میں فصل قضاء کیلئے شفاعتِ عظیٰ عطا ہو گی۔ اور ایک جماعت کے حق میں بغیر حساب جنت میں داخل کئے جانے کیلئے اور دوسری جماعت کے رفع درجات کیلئے شفاعت کی اجازت ہو جائے گی۔ اس طرح ستر ہزار بہشت میں بے حساب داخل ہوں گے اور ستر ہزار کے ساتھ اور بہت سے بے حساب بہشت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی امت کیلئے اور کئی قسم کی شفاعت کی اجازت حاصل ہو گی۔

۹۷۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوضِ کوثر عطا ہو گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر نیف آپ کے حوض پر ہو گا۔

۹۸۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہلے سب پیغمبروں کی امتوں سے زیادہ ہو گی۔ کل الٰ بہشت کی دو تہائی آپ ہی کی امت ہو گی۔ قیامت کے دن ہر ایک کائن و سب منقطع ہو گا (یعنی سود مند نہ ہو گا) مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب و سب منقطع نہ ہو گا۔

۹۹۔ قیامت کے دن اوابے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہو گا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام اس جہنڈے تلے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سمیت سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے۔

۱۰۰۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھناکھائیں گے۔ خازنِ جنت پوچھے گا کہ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں۔ وہ عرض کرے گا کہ میں انھ کر کھوتا ہوں میں آپ سے پہلے کسی کیلئے نہیں انھا اور نہ آپ کے بعد کسی کیلئے انھوں گا پھر آپ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیلہ عطا ہو گا جو جنت میں اعلیٰ درج ہے۔

جنت میں سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب (قرآن کریم) کے کوئی اور کتاب نہ پڑھی جائے گی۔ اور نہ سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے کسی اور زبان میں کوئی تکلم کرے گا۔

خاتمه



WWW.NAFSEISLAM.COM

رأت کو ۱۲ بجے ختم ہوا۔

شبِ جعرات - ۱۶، اکتوبر ۱۹۹۷ء

مدینے کا بھکاری النقیر القادری ابوالصالح

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور - پاکستان